

PRESS RELEASE

For immediate release

September 29, 2022

SECP further facilitates digital onboarding of investors

ISLAMABAD, September 29: To facilitate seamless onboarding of investors, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), has allowed Asset Management Companies (AMCs) and Pension Fund Managers (PFMs) to conduct investor identity verification. They may do so either on their own, or by obtaining identification documents from the onboarding platform through which micro-saving customer is being onboarded.

This development will not only support AMCs and PFMs in smooth integration with potential branchless banking operators and Electronic Money Institutions but will also assist in complying with applicable requirements of AML/ CFT regulatory framework.

The new regulation is part of SECP's efforts to usher in a new era of smart investing and to ensure provision of seamless onboarding experience for mutual fund investors onboarded through branchless banking and EMI platforms to open Sehl Sarmayakari Accounts.

SECP introduced Sehl Sarmayakari Accounts to promote micro-savings culture where a customer can be seamlessly onboarded through digital wallets/ branchless banking operators without providing any additional information/ document to the AMCs.

This reflects the SECP's continued commitment to support digitalization and providing a conducive investment climate for growth of non-bank financial sector and capital markets. SECP is of the view that as the industry transitions towards the digitization of financial services, digital onboarding will soon become the norm in the industry.

ایس ای سی پی نے سرمایہ کاروں کی ڈیجیٹل آن بورڈنگ کے لیے مزید سہولت کی فراہم کر دی

اسلام آباد، 29 ستمبر: سرمایہ کاروں کو بغیر کسی رکاوٹ کے آن بورڈنگ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایسیٹ مینجمنٹ کمپنیوں (AMCs) اور پنشن فنڈ مینجرز (PFMs) کو سرمایہ کاروں کی تصدیق کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ کمپنیاں اپنے طور پر یا آن بورڈنگ پلیٹ فارم جس کے ذریعے مائیکرو سیونگ کسٹمر کو آن بورڈ کیا جا رہا ہے، شناختی دستاویزات حاصل کر کے ایسا کر سکتی ہیں۔

یہ پیشرفت نہ صرف AMCs اور PFMs کو ممکنہ برانچ لیس بینکنگ آپریٹرز اور الیکٹرانک منی انسٹی ٹیوشنز کے ساتھ انٹیگریشن میں معاونت کرے گی بلکہ AML/CFT ریگولیٹری فریم ورک کے قابل اطلاق تقاضوں کی تعمیل میں بھی مدد کرے گی۔

نئی ریگولیشن سمارٹ سرمایہ کاری کے ایک نئے دور کا آغاز کرنے اور سہل سرمایہ کاری اکاؤنٹس کھولنے کے لیے برانچ لیس بینکنگ اور EMI پلیٹ فارم کے ذریعے آن بورڈ ہونے والے میوچل فنڈ سرمایہ کاروں کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے آن بورڈنگ کے تجربے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایس ای سی پی کی کوششوں کا حصہ ہے۔

ایس ای سی پی نے مائیکرو سیونگ کلچر کو فروغ دینے کے لیے سہل سرمایہ کاری اکاؤنٹس متعارف کرائے تھے جہاں صارفین کو کسی اضافی معلومات/دستاویزات فراہم کیے بغیر ڈیجیٹل والٹس/برانچ لیس بینکنگ آپریٹرز کے ذریعے بغیر کسی رکاوٹ کے آن بورڈ کیا جاسکتا ہے۔

یہ نئی ریگولیشن ایس ای سی پی کے ڈیجیٹلائزیشن کی کاوشوں اور نان بینک فنانسشل سیکٹر اور کیپٹل مارکیٹس کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ ایس ای سی پی کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے انڈسٹری فنانشل سروسز کی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف منتقل ہو رہی ہے، ڈیجیٹل آن بورڈنگ جلد ہی انڈسٹری میں معمول بن جائے گی۔